

## قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۱﴾ قَالُوا إِنَّا

ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا پھر تمہیں کیا کام سونپا گیا ہے، اے فرشتو؟ وہ کہنے لگے ہم

أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۵۲﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَاتٍ

مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تاکہ ہم اُن پر مٹی

مِّنْ طِينٍ ﴿۵۳﴾ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۵۴﴾

کے پتھر برسائیں۔ جو تیرے رب کے پاس حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾

پھر ہم نے ایمان والوں کو نکال لیا جو اس بستی میں تھے۔

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمَسْلُومِينَ ﴿۵۶﴾ وَتَرَكْنَا

پھر ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا نہیں پایا۔ اور ہم نے

فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۵۷﴾

اس میں نشانی چھوڑ دی اُن لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ

اور موسیٰ (علیہ السلام) میں جب کہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف روشن دلیل دے کر رسول

مُؤْتَمِنِينَ ﴿۵۸﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَجَرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۵۹﴾

بنا کر بھیجا۔ پھر اس نے ارکان سلطنت کے بل پر روگردانی کی، اور بولا کہ یہ تو جادوگرا مجنون ہے۔

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۶۰﴾

پھر ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ہم نے اُن کو پھینک دیا سمندر میں جب کہ اُن پر الزام رکھا گیا۔

وَفِي قَوْمٍ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ ﴿۶۱﴾

اور قوم عاد میں جب کہ ہم نے اُن پر بانجھ کرنے والی ہوا بھیجی۔

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ ﴿۶۲﴾

جس چیز پر بھی وہ گذرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کے مانند کر چھوڑتی تھی۔

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۶۳﴾ فَعَتَوْا

اور قوم ثمود میں جب اُن سے کہا گیا کہ تم ایک وقت تک مزے اڑا لو۔ پھر انہوں نے

عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۶۴﴾

اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، پھر اُن کو کڑک نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٥١﴾
پھر انہیں اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔
وَقَوْمٌ نُّوحٌ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٢﴾
اور قوم نوح کو اس سے پہلے۔ یقیناً وہ نافرمان قوم تھی۔
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُبْسُوعُونَ ﴿٥٣﴾ وَالْأَرْضَ
اور آسمان کو ہم نے قدرت سے بنایا ہے، اور یقیناً ہم ہی وسیع کرنے والے ہیں۔ اور زمین کو
فَكَرَسْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿٥٤﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ
ہم نے بچھایا، پھر ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں؟ اور ہر چیز کے
خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ فَذُرُّوا
جوڑے ہم نے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر تم اللہ کی طرف
إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٦﴾ وَلَا تَجْعَلُوا
بھاگو۔ یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اور تم اللہ کے ساتھ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٧﴾ كَذَلِكَ
دوسرے معبود مت بناؤ۔ یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح
مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ
اُن لوگوں کے پاس بھی جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے
أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٨﴾ أَتَوَاصَوْا بِهِ ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَٰغُوتٌ ﴿٥٩﴾
یا پاگل ہے۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر رکھی ہے؟ بلکہ یہ شریر قوم ہے۔
فَقَتَلُوا عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٦٠﴾ وَذَكَرْ فَإِنَّ الدَّكْرَى
تو آپ ان سے اعراض کیجیے، اب آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ اور آپ نصیحت کرتے رہئے، یقیناً نصیحت
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ
ایمان والوں کو نفع دے گی۔ اور میں نے جنات اور انسان پیدا نہیں کیے مگر اس لیے
إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٦٢﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ
تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے روزی نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں
أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتَّةِ ﴿٦٤﴾
کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ یقیناً اللہ ہی روزی دینے والا ہے، وہ مضبوط قوت والا ہے۔

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ

پھر اُن لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں باری ہے اُن کے ساتھیوں کی باری کی طرح،

فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۵۱﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

پھر وہ جلدی نہ مچائیں۔ پھر ہلاکت ہے کافروں کے لیے

مَنْ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۵۲﴾

اُن کے اس دن سے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔

۲۹ آیاتھا ﴿۵۱﴾ سُوْرَةُ الظُّوْرِ ﴿مَكِّيَّةٌ﴾ (۵۱) رُكُوْعَاتُهَا ۲

اس میں ۳۹ آیتیں ہیں سورۃ الظور کہ میں نازل ہوئی اور ۲ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

وَالظُّوْرِ ﴿۲﴾ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿۳﴾ فِی رَقٍ مَّنْشُوْرٍ ﴿۴﴾

طور کی قسم۔ کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے۔ جو پھیلانے ہوئے کاغذ میں ہے۔

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرٍ ﴿۵﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿۶﴾ وَالْبَحْرِ

بیت معمور کی قسم۔ بلند چھت کی قسم۔ دریائے شور کی قسم،

الْمَسْجُوْرِ ﴿۷﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوٰقِعٌ ﴿۸﴾ مَا لَهٗ

جو پڑ ہے۔ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اس کو

مِنْ دَافِعٍ ﴿۹﴾ یَوْمَ تَمُوْرُ السَّمٰءِ مَوْرًا ﴿۱۰﴾ وَتَسْبِرُ

کوئی دفع نہیں کر سکتا۔ جس دن آسمان کپکپا کر لرزے گا۔ اور پہاڑ

الْجِبَالِ سَابِرًا ﴿۱۱﴾ فَوَيْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ﴿۱۲﴾

چلنے لگیں گے۔ پھر اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔

الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ حَوْضٍ یَّالْعَبُوْنَ ﴿۱۳﴾ یَوْمَ یَدْعُوْنَ

اُن کے لیے جو دل لگی میں کھیل رہے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے

اِلٰی نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿۱۴﴾ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیْ كُنْتُمْ بِهَا

دے کر جہنم کی آگ کی طرف لایا جائے گا۔ (کہا جائے گا کہ) یہ وہ آگ ہے جس کو تم

تُكَذِّبُوْنَ ﴿۱۵﴾ اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۱۶﴾

جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟



وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُورِ ﴿۷۳۱﴾ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ

اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے۔

إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿۷۳۲﴾ فَذَكَرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ

یقیناً وہ لطف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اس لیے آپ نصیحت کیجیے، پھر آپ اپنے رب کی نعمت

رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۷۳۲﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ

کی وجہ سے نہ کاہن ہو اور نہ پاگل ہو۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو شاعر ہے؟

تَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿۷۳۳﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي

ہم اس کے متعلق موت کے حادثہ کے منتظر ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ تم منتظر رہو، پھر میں بھی

مَعَكُمْ مِنَ الْمُرْتَبِصِينَ ﴿۷۳۳﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ

تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کیا ان کو ان کی عقلیں اس کا حکم

بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿۷۳۴﴾ أَمْ يَقُولُونَ كَتَّوَلَهُ

دیتی ہیں یا یہ لوگ شریر ہی ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود کہا ہے؟

بَلْ لَأَيُّومُنَّ ﴿۷۳۴﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مَثَلَهُ إِنْ كَانُوا

بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو انہیں چاہئے کہ اس جیسا کوئی کلام لے آئیں اگر یہ

صَادِقِينَ ﴿۷۳۵﴾ أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۷۳۵﴾

سچے ہیں۔ کیا یہ بغیر کسی چیز کے خود پیدا ہو گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟

أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۗ بَلْ لَأَيُّوقِنُونَ ﴿۷۳۶﴾

کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصِطْرُونَ ﴿۷۳۷﴾

یا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں یا یہ حاکم ہیں؟

أَمْ لَهُمْ سَلْمٌ يُسْمَعُونَ فِيهِ ۗ فَلْيَأْتِ مُسْمِعَهُمْ

یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں (چڑھ کر) وہ سن لیتے ہیں؟ تو ان کو چاہئے کہ ان کا سننے والا

يَسْطَلْنَ مَبِينٍ ﴿۷۳۸﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ﴿۷۳۸﴾

کوئی روشن دلیل لے آئے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْرَمٍ مَثْقَلُونَ ﴿۷۳۹﴾ أَمْ

یا آپ ان سے معاوضہ کا سوال کرتے ہیں کہ یہ اس تاوان میں دبے جا رہے ہیں؟ کیا

عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۵۳﴾ أَمْ يُرِيدُونَ

اُن کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ لکھ لیتے ہیں؟ یا یہ مکر کرنا

كَيْدًا ۱۰۰ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿۵۴﴾ أَمْ لَهُمْ

چاہتے ہیں؟ پھر جو کافر ہیں اُنہی کے خلاف تدبیر کی جائے گی۔ کیا اُن کا

إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ ۱۰۱ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۵۵﴾

کوئی معبود ہے اللہ کے سوا؟ اللہ پاک ہے اُن سے جنہیں وہ شریک بتا رہے ہیں۔

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ

اور اگر یہ آسمان سے گرتا ہوا کلکڑا دیکھ لیں، تو کہیں گے کہ یہ تو تہہ بہ تہہ

مَزْكُومٌ ﴿۵۶﴾ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ

بادل ہے۔ پھر آپ انہیں چھوڑ دیجیے یہاں تک کہ وہ ملیں اپنے اس دن سے جس میں اُن پر

يُصْعَقُونَ ﴿۵۷﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

صاعقہ پڑے گی۔ جس دن اُن کی مکاری اُن کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی

وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۵۸﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا

اور اُن کی نصرت نہیں کی جائے گی۔ اور اُن ظالموں کے لیے اس کے علاوہ بھی

دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ وَأَصْبِرْ

عذاب ہوگا، لیکن اُن میں سے اکثر جانتے نہیں۔ اور آپ صبر کیجیے

بِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينًا

اپنے رب کے حکم کی وجہ سے، پھر ضرور آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے جس

تَقُومُ ﴿۶۰﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿۶۱﴾

وقت آپ اٹھتے ہو۔ اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیجیے اور ستاروں کے غروب ہونے پر بھی۔

۱۰۱ آیاتھا ۶۲

۱۰۰ آیاتھا ۶۱

۱۰۰ آیاتھا ۶۰

۱۰۰ آیاتھا ۵۹

۱۰۰ آیاتھا ۵۸

۱۰۰ آیاتھا ۵۷

۱۰۰ آیاتھا ۵۶

۱۰۰ آیاتھا ۵۵

۱۰۰ آیاتھا ۵۴

۱۰۰ آیاتھا ۵۳

۱۰۰ آیاتھا ۵۲

۱۰۰ آیاتھا ۵۱

۱۰۰ آیاتھا ۵۰

۱۰۰ آیاتھا ۴۹

۱۰۰ آیاتھا ۴۸

۱۰۰ آیاتھا ۴۷

۱۰۰ آیاتھا ۴۶

۱۰۰ آیاتھا ۴۵

۱۰۰ آیاتھا ۴۴

۱۰۰ آیاتھا ۴۳

۱۰۰ آیاتھا ۴۲

۱۰۰ آیاتھا ۴۱

۱۰۰ آیاتھا ۴۰

۱۰۰ آیاتھا ۳۹

۱۰۰ آیاتھا ۳۸

۱۰۰ آیاتھا ۳۷

۱۰۰ آیاتھا ۳۶

۱۰۰ آیاتھا ۳۵

۱۰۰ آیاتھا ۳۴

۱۰۰ آیاتھا ۳۳

۱۰۰ آیاتھا ۳۲

۱۰۰ آیاتھا ۳۱

۱۰۰ آیاتھا ۳۰

۱۰۰ آیاتھا ۲۹

۱۰۰ آیاتھا ۲۸

۱۰۰ آیاتھا ۲۷

۱۰۰ آیاتھا ۲۶

۱۰۰ آیاتھا ۲۵

۱۰۰ آیاتھا ۲۴

۱۰۰ آیاتھا ۲۳

۱۰۰ آیاتھا ۲۲

۱۰۰ آیاتھا ۲۱

۱۰۰ آیاتھا ۲۰

۱۰۰ آیاتھا ۱۹

۱۰۰ آیاتھا ۱۸

۱۰۰ آیاتھا ۱۷

۱۰۰ آیاتھا ۱۶

۱۰۰ آیاتھا ۱۵

۱۰۰ آیاتھا ۱۴

۱۰۰ آیاتھا ۱۳

۱۰۰ آیاتھا ۱۲

۱۰۰ آیاتھا ۱۱

۱۰۰ آیاتھا ۱۰

۱۰۰ آیاتھا ۹

۱۰۰ آیاتھا ۸

۱۰۰ آیاتھا ۷

۱۰۰ آیاتھا ۶

۱۰۰ آیاتھا ۵

۱۰۰ آیاتھا ۴

۱۰۰ آیاتھا ۳

۱۰۰ آیاتھا ۲

۱۰۰ آیاتھا ۱

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیاتھا ۰

۱۰۰ آیات

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَجْهُ يُنْجِي ۗ

اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ یہ تو صرف وحی ہے جو اُن کی طرف وحی کی جاتی ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ ذُو مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ

اُن کو سخت قوتوں والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ جو طاقت ور ہے، پھر وہ پورا نمودار ہوا۔ اس حال میں

بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۗ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۖ فَكَانَ قَابَ

کہ وہ آسمان کے بلند کنارہ میں تھا۔ پھر وہ قریب آیا، پھر نیچے اترا۔ پھر دو کمان کے برابر یا

قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۖ

اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندہ کی طرف وحی کی جو اس نے وحی کی۔

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۖ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۖ

دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ کیا پھر تم اُن سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھ رہے ہیں؟

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۖ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۖ

اور یقیناً انہوں نے ایک دوسری مرتبہ بھی اس (فرشتہ) کو دیکھا ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس۔

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۖ إِذْ يَعْشَىٰ الْبَدْرَ مَا يَعْشَىٰ ۖ

جس کے پاس جنت المآویٰ ہے۔ جب کہ سدرۃ المنتہیٰ کو ڈھانپ رہی تھیں وہ چیزیں جو اس کو ڈھانپ رہی تھیں۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۖ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ

نگاہ مبارک نہ ہٹی، نہ (مرئی سے) آگے بڑھی۔ یقیناً آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں میں سے

الْكِبْرَىٰ ۖ أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۖ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ

دیکھا۔ کیا پھر تم نے دیکھا لات اور عزیٰ اور تیسرے منات

الْأُخْرَىٰ ۖ أَلَمْ يَذْكُرْ وَلَهُ الْآيَاتُ ۖ تِلْكَ إِذَا قَسَمَةٌ

کو؟ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یقیناً یہ تو بہت بری

ضَبْطِي ۖ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَّتُوهَا

تقسیم ہے۔ یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ

رکھ رکھے ہیں، جن پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ تو صرف گمان

إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ

کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے پیچھے جس کی نفس خواہش کرتے ہیں۔ اور یقیناً اُن کے پاس اُن کے رب

<p>رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ۞ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَسَّى ۞ فَذَلِكُمْ ہی کی طرف سے ہدایت آئی ہے۔ کیا انسان کو ملتا ہے جو بھی وہ چاہے؟ پھر اللہ کی ملک</p>	۱۰
<p>الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۞ وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ ہے آخرت بھی اور پہلی دنیا بھی۔ اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ</p>	
<p>لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے</p>	۱۱
<p>لِيَمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ۞ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ یقیناً جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے</p>	
<p>لَيَسْمَعُنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْبِيحَ الْأَنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُمْ بِهِ وہ فرشتوں کو لڑکیوں کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ اُن کے پاس اس کی کوئی</p>	۱۲
<p>مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ دلیل نہیں۔ وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور گمان حق</p>	
<p>لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۞ فَأَعْرِضْ عَنْ مَن تَوَلَّىٰ ۖ کے مقابلہ میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ پھر آپ اس سے اعراض کیجیے جو ہمارے ذکر سے</p>	۱۳
<p>عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۞ ذَلِكَ منہ موڑتا ہے اور جو صرف دنیوی زندگی کو چاہتا ہے۔ یہ</p>	
<p>مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ اُن کا مبلغ علم ہے۔ یقیناً تیرا رب وہ خوب جانتا ہے اس کو جو اللہ کے</p>	۱۴
<p>عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهْتَدَىٰ ۞ وَبِهِ راستہ سے بھٹک گیا اور وہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جس نے ہدایت پائی۔ اور اللہ کے لیے</p>	
<p>مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ تاکہ اللہ سزا دے اُن کو جنہوں نے</p>	۱۵
<p>بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَىٰ ۞ الَّذِينَ برے اعمال کیے اور اللہ اچھا بدلہ دے اُن کو جنہوں نے نیکیاں کیں۔ اُن کو جو</p>	
<p>يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، سوائے چھوٹے گناہ کے۔</p>	۱۶



إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْبُعْفَرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ

یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں

مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ

زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں جنین تھے۔

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۗ أَفَرَأَيْتَ

پھر تم اپنے نفوس کو مزئی مت بناؤ۔ وہ خوب جانتا ہے اس کو جو متقی ہے۔ کیا آپ نے

الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَآعْطَى قَلْبِيلاً ۖ وَأَكْذَى ۖ أَعِنْدَهُ

دیکھا اس شخص کو جس نے اعراض کیا؟ اور اس نے تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس

عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُزِي ۖ أَمْ لَمْ يُنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ

غیب کا علم ہے، پھر وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے خبر نہیں دی گئی اُن چیزوں کی جو موسیٰ (علیہ السلام) کے صحیفوں میں

مُوسَىٰ ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۖ أَلَمْ تَزِرْ وَازِرَةً

ہیں؟ اور ابراہیم (علیہ السلام) کے (صحیفوں میں ہیں)، جنہوں نے (رسالت کا حق) ادا کر دیا۔ یہ کہ کوئی بوجھ

وَوَزَرَ أُخْرَىٰ ۖ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۖ

اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے سعی کی۔

وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُزِي ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۖ

اور اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی۔ پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ وَأِنَّهُ هُوَ أَصْحَكَ وَابْكَىٰ ۖ

اور یہ کہ تیرے رب کی طرف پہنچنا ہے۔ اور وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔

وَأِنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۖ وَأِنَّهُ خَلَقَ الرُّوحَ جِنِّ

اور وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ اور اسی نے جوڑے پیدا کیے،

الدَّكْرَ وَالْأُنْثَىٰ ۖ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۖ وَأَنْ عَلَيْهِ

مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ ایک نطفہ سے جو ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ کہ اسی کے ذمہ

الشَّأَةَ الْاُخْرَىٰ ۖ وَأِنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَآفَىٰ ۖ وَأِنَّهُ

دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہے۔ اور وہی غنی کرتا ہے اور وہی مفلس بناتا ہے۔ اور وہی

هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۖ وَأِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۖ

شعری کا رب ہے۔ اور اسی نے پہلے عاد کو ہلاک کیا۔

وَسُوْدًا فَمَا اَنْبَىٰ ۙ وَقَوْمٌ نُّوحٌ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ

اور خود کو ہلاک کیا، پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ اور اس نے اس سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ یقیناً وہ

كَانُوا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْعَىٰ ۙ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَىٰ ۙ

سب سے زیادہ ظلم کرنے والے اور سب سے زیادہ شریر تھے۔ اور اسی نے الٹ دی جانے والی بستی کو بچ دیا۔

فَعَشَهَا مَا عَشَىٰ ۙ فَمَا اِيَّ الَّا رَتِكَ تَتَمَارَىٰ ۙ

پھر اس کو ڈھانپا (اُن پھروں نے) جس نے اُن کو ڈھانپا۔ پھر تو اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت پر جھگڑے گا؟

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْاُولَىٰ ۙ اَرَقِبْتِ الْاِنْفَاةَ ۙ

یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قریب آئینگی۔

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۙ اَفَمِنْ هٰذَا

اس کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا پھر اس

الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۙ وَ تَضْمَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۙ

بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟

وَاَنْتُمْ سَلَمِدُوْنَ ۙ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاَعْبُدُوْا ۙ

اور تکبر کرتے ہو؟ تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔

۵۵ اِيَّاهَا ۙ (۵۳) سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ (۳۷) نُوْعَانِهَا ۳

اس میں ۵۵ آیتیں ہیں سورۃ القمر مکہ میں نازل ہوئی اور ۳ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَبْرُ ۙ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً

قیامت قریب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھ لیں

يُعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۙ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا

تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی

اَهْوَاءَهُمْ وَكُلٌّ اَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۙ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ

خواہش کے پیچھے چلے اور ہر امر ٹھہرنے والا ہے۔ اور یقیناً اُن کے پاس اتنی خبریں آچکی ہیں

الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُرْدَجَرٌ ۙ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۙ فَمَا

جن میں (کافی) عبرت ہے۔ انتہائی درجہ کی حکمت ہے، پھر ڈرانے

تُعِنِ التُّدْرُجَ ۚ فَتَقُولُ عَنْهُمْ مِ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ

والے بھی کچھ کام نہیں آئے۔ اس لیے آپ اُن سے اعراض کیجیے، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی

إِلَى شَيْءٍ نُّكِرٍ ۚ حُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ

طرف پکارے گا۔ اُن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے نکل رہے

مِنَ الْجَدَاثِ ۚ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۚ مَهْطِعِينَ

ہوں گے گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ وہ تیز دوڑ رہے ہوں گے

إِلَى الدَّاعِ ۚ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۚ كَذٰبَتْ

بلانے والے کی جانب۔ کافر لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اُن

قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ ۚ فَكَذَّبُوْا عِبْدَنَا وَقَالُوْا بَعَجُونُ

سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، پھر انہوں نے ہمارے بندہ کو جھٹلایا اور بولے یہ تو مجنون ہے اور اس کو

وَاٰزْدَجِرُ ۚ فَدَعَا رَبَّهٗ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَاَنْصِرْ ۚ

جھڑک دیا گیا۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، تو میری نصرت فرما۔

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ بِمَآءٍ مُّنْهَبِرٍ ۚ وَفَجَّرْنَا

پھر ہم نے آسمان کے دروازے لگاتار برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیے۔ اور ہم نے

الْاَرْضَ عَيُوْنًا ۚ فَالتَّقٰى الْمَآءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدٍ قَدَرٍ ۚ

زمین سے چستے جاری کر دیے، پھر پانی ایک حکم پر مل گیا جو پہلے سے متعین کر دیا گیا تھا۔

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذٰتِ الْاَوَاجِ ۚ وَدَسِرَ ۚ تَجْرٰى بِاَعْيُنِنَا ۚ

اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو تختیوں والی اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا۔ جو چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے۔

جَزَآءً لِّمَن كَانَ كٰفِرًا ۚ وَلَقَدْ تَرَكْنٰهَا اٰيَةً

اس کے انتقام کے لیے جس کی ناشکری کی گئی۔ اور یقیناً ہم نے اس کو ایک نشانی کے طور پر چھوڑ دیا،

فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنَذْرِيْ ۚ وَلَقَدْ

کیا پھر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا؟ اور یقیناً

يَسْرٰنَا الْقُرْآنَ لِلدِّكْرِ ۚ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۚ كَذٰبَتْ

ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قوم عاد

عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنَذْرِيْ ۚ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

نے جھٹلایا، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا؟ یقیناً ہم نے اُن پر

رَبِّحًا صَرَصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۖ تَنْزِعُ

طوفانی ٹھنڈی ہوا لگاتار نحوست والے دن میں چھبھی۔ جو انسانوں

النَّاسِ ۖ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعٍ ۖ فَكَيْفَ كَانَ

کو (اُچک) کر پھینک رہی تھی گویا کہ وہ انسان اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پھر میرا عذاب

عَذَابِي وَنُذْرِي ۖ وَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

اور میرا ڈرانا کیسا رہا؟ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو حفظ کے لیے (نصیحت کے لیے) آسان کیا، پھر کیا ہے کوئی

فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۖ فَقَالُوا أَبَسْرًا

حفظ کرنے والا (نصیحت حاصل کرنے والا)؟ قوم ثمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا

مَتًا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ۖ إِنَّا إِذَا لَفِيَ ضَلَلٍ وَسُعْرٍ ۖ

ہم میں سے ایک انسان کے ہم پیچھے چلیں؟ یقیناً ہم تب تو گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔

ءَالْفَيْ الذِّكْرِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ

کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر یہ ذکر ڈالا گیا؟ بلکہ یہ تو جھوٹا ہے، اکڑنے والا ہے۔

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرِ ۖ إِنَّا مُرْسِلُوا

جلد ہی کل کو یہ جان لیں گے کہ کون جھوٹا، اکڑنے والا ہے۔ ہم اونٹنی اُن کے

النَّاقَةِ ۖ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۖ وَنَبِّئْهُمْ

امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، اس لیے آپ اُن کے متعلق منتظر رہئے اور صبر کیجیے۔ اور اُن کو

أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ شَرِبَ مَحْتَضِرٍ ۖ فَنادُوا

خبر دے دیجیے کہ پانی اُن کے درمیان تقسیم ہے۔ ہر پینے کی باری پر حاضر ہونا ہے۔ پس انہوں نے اپنے

صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي

ساتھی کو پکارا، پھر وہ تلوار لے کر آیا، پھر اس نے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے۔ پھر میرا عذاب اور ڈرانا کیسا

وَ نُذْرِي ۖ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً ۖ وَاحِدَةً فَكَانُوا

رہا؟ یقیناً ہم نے اُن پر ایک ہی چیخ کو بھیجا، پھر وہ باڑ

كَهَشِيمٍ الْمِحْطَلِ ۖ وَقَدْ يَسْرُنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

کے سوکھے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت (یاد) کے لیے آسان کیا،

فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل (یاد) کرنے والا؟ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۗ نَجَّيْنَاهُمْ

یقیناً ہم نے اُن پر پتھر برسانے والی تیز ہوا کا عذاب بھیجا، مگر لوط (علیہ السلام) کے ماننے والوں پر۔ جن کو ہم نے نجات دی

بِسَحَرٍ ۚ تَعْمَةً ۖ مِّنْ عِنْدِنَا ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ

رات کے پچھلے پہریں۔ ہماری طرف سے نعمت کے طور پر۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اُس کو جو شکر گزار

شَكَرَ ۚ وَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَاوَا بِالتَّنْذِيرِ ۚ

ہوتا ہے۔ اور یقیناً انہوں نے اُن کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، پھر انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک کیا۔

وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا

اور لوط (علیہ السلام) کو پھسلا یا انہوں نے اُن کے مہمانوں سے، پھر ہم نے اُن کی آنکھوں کو میٹ دیا، پھر تم میرا عذاب

عَذَابِي وَنُذِرِ ۚ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ

چکھو اور میرے ڈرانے کو چکھو۔ اور یقیناً اُن کے پاس صبح کے وقت دائمی عذاب آچکا سورج

مُسْتَقَرًّا ۚ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ۚ وَلَقَدْ يَسْرِنَا

نکلتے ہوئے۔ پھر میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو چکھو۔ اور یقیناً ہم نے

الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَكِّرٍ ۚ وَلَقَدْ

قرآن کو حفظ کے لیے آسان کیا، پھر کیا ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ اور یقیناً

جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا كَلْبًا

آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ جنہوں نے ہماری تمام آیتوں کو جھٹلایا،

فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۚ الْفَاكِرُ خَيْرٌ

پھر ہم نے اُن کو ایک قدرت والے زبردست کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ کیا تمہارے کفار اُن لوگوں سے بہتر

مَنْ أُولِيكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۚ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ

ہیں یا تمہارے لیے کتابوں میں براءت ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں،

جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٍ ۚ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الذُّبُرَ ۚ

کامیاب ہو جائیں گے؟ عنقریب اُن اکٹھے ہونے والوں کو شکست دی جائے گی اور یہ پشت پھیر کر بھاگیں گے۔

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ ۚ

بلکہ قیامت اُن کے وعدہ کا وقت ہے اور قیامت بہت زیادہ خوفناک اور بڑی کڑوی ہے۔

إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۚ يَوْمَ يُسْعَبُونَ

یقیناً مجرم گمراہی اور آگ میں ہوں گے۔ جس دن اُن کو

فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ۖ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿۳۱﴾ إِنَّا

آگ میں اُن کے چہروں کے بل گھیٹا جائے گا۔ (کہا جائے گا کہ) تم دوزخ کا عذاب چکھو۔ یقیناً ہم

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿۳۲﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ

نے ہر چیز کو مقدار سے پیدا کیا ہے۔ اور ہمارا حکم نہیں مگر ایک ہی مرتبہ

كَلْبَحٍ بِالْبَصْرِ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ

آنکھ کے پلک جھپکنے کی طرح۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے ہم مسلکوں کو ہلاک کیا،

فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿۳۴﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿۳۵﴾ وَكُلُّ

پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور ہر چیز جو انہوں نے کی دفتروں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور ہر

صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ ﴿۳۶﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَدَّتِ

چھوٹی اور بڑی حرکت لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں

وَ نَهْرٍ ﴿۳۷﴾ فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۳۸﴾

ہوں گے۔ سچائی کی جگہ میں ہوں گے قدرت والے بادشاہ کے پاس۔

الْباقيا ۷۸

(۵۵) سُورَةُ الرَّحْمٰنِ اِلٰمًا كَرِيْمًا (۹۷)

رُكُوْعًا ثَمَانِيًا ۲

اس میں ۷۸ آیتیں ہیں

سورة الرحمن مدینہ میں نازل ہوئی

اور ۳ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

الرَّحْمٰنُ ﴿۲﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿۳﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿۴﴾ عَلَّمَهُ

رحمن نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس نے

الْبَيَانَ ﴿۵﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿۶﴾ وَالنَّجْمُ

اسے بولنا سکھلایا۔ چاند اور سورج ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اور نیل اور

وَ الشَّجَرُ يَسْجُدْنَ ﴿۷﴾ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿۸﴾

درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور اس نے آسمان بلند کیا اور اس نے ترازو رکھ دیا۔

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿۹﴾ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

(حکم دیا) کہ تم تولنے میں زیادتی مت کرو۔ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولا کرو

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿۱۰﴾ وَالْاَمْرَاضَ وَضَعَهَا لِلْاِنَامِ ﴿۱۱﴾

اور تولنے میں کم کر کے مت دو۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بنائی۔

فِيهَا فَالْكِهْمَةُ وَالنَّعْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ

جس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں غلاف والے۔ اور اناج ہے

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَيَايَ الْاَيِّ رَبِّكُمَا

بھوسے والا اور خوشبودار پھول ہیں۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس

تُكذِّبُنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

نعت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری کی طرح کھلناتی مٹی سے۔

وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝ فَيَايَ الْاَيِّ

اور اس نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی

رَبِّكُمَا تُكذِّبُنَ ۝ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

نعمتوں میں سے کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرق کا رب ہے اور دونوں مغرب کا رب ہے۔

فَيَايَ الْاَيِّ رَبِّكُمَا تُكذِّبُنَ ۝ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر ملا کر چلائے

يَلْتَقِيَانِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝ فَيَايَ الْاَيِّ

جو باہم ملتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے کہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے۔ پھر (اے انسانو اور

رَبِّكُمَا تُكذِّبُنَ ۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔

فَيَايَ الْاَيِّ رَبِّكُمَا تُكذِّبُنَ ۝ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ

پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے ہیں سمندر میں

فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝ فَيَايَ الْاَيِّ رَبِّكُمَا تُكذِّبُنَ ۝

پہاڑوں جیسے اونچے جہاز۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے؟

كُلٌّ مِنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ

ہر وہ چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے۔ اور تیرے عظمت اور عزت والے

ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ۝ فَيَايَ الْاَيِّ رَبِّكُمَا

رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعت کو

تُكذِّبُنَ ۝ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ

جھٹلاؤ گے؟ اسی سے مانگتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٦٥﴾ فَيَأْتِي الْإِلَهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٦﴾

ہر دن وہ ایک شان (حال) میں ہوتا ہے۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

سَمِعْتُمْ لَكُمْ مِنْ آيَةِ الثَّقَلَيْنِ ﴿٦٧﴾ فَيَأْتِي الْإِلَهَ رَبِّكُمَا

عنقریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، اے انسانوں اور جنات کی دونوں جماعتوں! پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے

تُكذِّبِينَ ﴿٦٨﴾ يَبْعَثُ الرَّجِينَ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ

رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ او انسانوں اور جنات کی جماعت! اگر تم کو یہ قدرت ہے

أَنْ تَتَفَدَّوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّلْوٰتِ وَالْأَمْرٰضِ

کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ،

فَأَنْفَعُكُمْ لَا تَنْفَعُونَ إِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٦٩﴾ فَيَأْتِي الْإِلَهَ

تو تم سوراخ کر کے نکل جاؤ۔ تم نکل نہیں سکتے مگر پروانہ اجازت سے۔ پھر (اے انسانو اور جنات!)

رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٧٠﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوْءًا

تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے اوپر آگ کا روشن شعلہ اور دھواں

مِنْ ثٰرٍ ؕ وَنَحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرِينَ ﴿٧١﴾ فَيَأْتِي الْإِلَهَ رَبِّكُمَا

چھوڑا جائے گا۔ پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے

تُكذِّبِينَ ﴿٧٢﴾ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً

کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ پڑے گا، تو وہ گلابی ہو جائے گا تیل کی

كَالذَّهَانِ ﴿٧٣﴾ فَيَأْتِي الْإِلَهَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٧٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ

تلپھٹ کی طرح۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس دن

لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٥﴾ فَيَأْتِي الْإِلَهَ

اس کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کسی انسان اور کسی جن سے۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب

رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٧٦﴾ يُعْرِفُ الْبَٰجِرِمْوٰنَ بِسِيمِهِمْ

کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مجرموں کو پہچان لیا جائے گا اُن کی علامتوں سے،

فَيُؤَخِّدُ بِالْأَوْصِيَ وَالْأَقْدَارِ ﴿٧٧﴾ فَيَأْتِي الْإِلَهَ

پھر انہیں پکڑا جائے گا پیشانی کے بالوں اور قدموں سے۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں

رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٧٨﴾ هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا

میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ (کہا جائے گا کہ) یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم



الْمَجْرُمُونَ ۱۰۷ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبٍ ۱۰۸

جھلاتے تھے۔ وہ چکر لگا رہے ہوں گے جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۰۹ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ

پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے

رَبِّهِ جَحْتَنِينَ ۱۱۰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۱۱

سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے دو جہنمیں ہوں گی۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۱۱۲ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۱۳

جھٹلاؤ گے؟ وہ کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

فِيهِمَا عَيْنِينَ تَجْرِيْنِ ۱۱۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

ان دونوں میں دو چشمے چل رہے ہیں۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس

تُكَذِّبِينَ ۱۱۵ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجِنِ ۱۱۶

کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں ہر میوہ کی دو دو قسمیں ہوں گی۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۱۷ مُتَكِبِينَ عَلَى فُرُشٍ

پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں

بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۱۱۸ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۱۱۹

گے تختوں کے اوپر جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ اور دونوں جنتوں کے میوے قریب لٹک رہے ہوں گے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۲۰ فِيهِنَّ قَصْرَاتُ

پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی

الظَّرْفِ ۱۲۱ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ أَنْسَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ۱۲۲

نگاہوں والی حوریں ہوں گی، جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۲۳ كَاتَمَتِ الْيَاقُوتُ

پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ حوریں یا قوت

وَالْمَرْجَانُ ۱۲۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۲۵

اور مونگے ہیں۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۱۲۶ فَبِأَيِّ

نیکی کا بدلہ تو سوائے نیکی کے اور کیا ہوگا؟ پھر (اے

الَّا رَبِّكُمْ تَكْذِبِينَ ﴿۱۰﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا

انسانو اور جنات! تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اُن دونوں جناتوں کے علاوہ

جَحْتِنِ ﴿۱۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۱۲﴾

اور بھی دو جنتیں ہیں۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

مُدَّهَامَتْنِ ﴿۱۳﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۱۴﴾

دونوں گہرے سبز سیاہی ماٹل ہیں۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

فِيهِمَا عَيْنِنِ نَضَّاحَتَيْنِ ﴿۱۵﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

اُن میں اچلتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ پھر اے انسانو اور جنات! تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس

تُكْذِبِينَ ﴿۱۶﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿۱۷﴾

کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اُن دونوں میں میوے ہیں اور کھجور ہیں اور انار۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۱۸﴾ فِيهِنَّ حَدِيرٌ

پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اُن میں نیک خوبصورت

حَسَانٌ ﴿۱۹﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۲۰﴾ حُورٌ

عورتیں ہیں۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں

مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿۲۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

ہیں جو خیموں میں ٹھہری ہوئی ہیں۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس

تُكْذِبِينَ ﴿۲۲﴾ لَمْ يَطْمِئِنَّهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿۲۳﴾

نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جن کو اُن سے پہلے کسی انسان نے چھوا نہیں اور نہ کسی جن نے۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۲۴﴾ مُتَّكِئِينَ

پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی ٹیک

عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَانٍ ﴿۲۵﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ

لگائے ہوئے ہوں گے سبز عجیب خوبصورت مسندوں پر۔ پھر (اے انسانو اور جنات!) تم اپنے

رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۲۶﴾ تَبْرَكَ اِسْمُ رَبِّكَ

رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے جلال اور عظمت

ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ﴿۲۷﴾

والے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔

	<p>۹۶ آیاتھا (۵۶) سُورَةُ الْوَاوِعَةِ مَكِّيَّةٌ (۳۶) رُكُوعَاتُهَا ۳ اس میں ۹۶ آیتیں ہیں سورۃ الواوِعۃ مکہ میں نازل ہوئی اور ۳ رکوع ہیں</p>	
<p>بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔</p>		
<p>اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝ جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہوگی۔ جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں۔</p>		
<p>خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝ اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًا ۝ وہ پست کرنے والی، بلند کرنے والی ہے۔ جب زمین لرز اٹھے گی کپکپاتی ہوئی۔</p>		
<p>وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا ۝ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝ اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔</p>		
<p>وَ كُنْتُمْ تِینَ ۝ جَمَاعَتِیْنَ بَنِی نَضِیْرٍ ۝ فَاصْحَبِ الْمِیْمَنَةَ ۝ اور تم تین جماعتیں بن جاؤ گے۔ پھر دائیں طرف والے،</p>		
<p>مَا اَصْحَبِ الْمِیْمَنَةَ ۝ وَ اَصْحَبِ الْمَشْأَمَةَ ۝ دائیں طرف والے کتنے اچھے ہیں! اور بائیں طرف والے،</p>		
<p>مَا اَصْحَبِ الْمَشْأَمَةَ ۝ وَالسَّیْقُونَ السَّیْقُونَ ۝ کیا ہی برے بائیں طرف والے! اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں۔</p>		
<p>اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝ فِی جَدَّتِ النَّعِیْمِ ۝ ثَلَاثَةٌ ۝ یہی مقربین ہیں۔ جو جناتِ نعیم میں ہوں گے۔ وہ زیادہ تر</p>		
<p>مِّنَ الْاٰوَّلِیْنَ ۝ وَ قَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ ۝ تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور پیچھے والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔</p>		
<p>عَلٰی سُرِّیٍّ مَّوْضُوْنَةٍ ۝ مُّتَّكِنِیْنَ عَلَیْهَا مُتَّقِلِیْنَ ۝ وہ ایسے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، جو سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے ہوں گے۔ وہ اُن پر ٹیک لگائے آنے</p>		
<p>یَطُوْفُ عَلَیْهِمْ وِلْدَانٌ مُّحَلَّدُونَ ۝ بِاَكْوَابٍ ۝ سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اُن پر چکر لگا رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ پیالے</p>		
<p>وَ اَبَارِیْقٌ ۝ وَ كَاۡسٍ مِّنْ مَّعِیْنٍ ۝ لَا یُصَدَّعُوْنَ ۝ اور جگ اور گلاس لے کر ایسے چشمہ سے، جس سے نہ سر درد</p>		

عَنْهَا وَلَا يُنْفَوْنَ ﴿۱۶﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿۱۷﴾

ہوگا اور نہ بکنا ہوگا۔ اور اُن کے پسندیدہ میوے لے کر۔

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿۱۸﴾ وَحَوْمٍ عَذِيں ﴿۱۹﴾

اور پرندوں کا گوشت جو اُن کو مرغوب ہو۔ اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی۔

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿۲۰﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوا

چھپائے ہوئے موتیوں کی طرح۔ اُن کے اعمال کے بدلہ

يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا

میں۔ وہ اس جنت میں نہ لغو بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات سنیں گے۔

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿۲۲﴾ وَاصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿۲۳﴾

مگر ایک ہی کلام سنیں گے: السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور دائیں طرف والے۔

مَا اصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿۲۴﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿۲۵﴾ وَطَلْحٍ

دائیں طرف والے کیا (خوب) ہیں! کانٹے صاف کی ہوئی بیروں میں، اور تہہ بہ تہہ

مَنْضُودٍ ﴿۲۶﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿۲۷﴾ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿۲۸﴾

رکھے کیلوں میں، اور لمبے سایہ میں، اور بہتے ہوئے پانی میں،

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿۲۹﴾ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿۳۰﴾

اور بکثرت میووں میں ہوں گے، جو کبھی نہ ختم ہوں گے نہ کبھی ممانعت ہوگی۔

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ﴿۳۱﴾ إِنَّا أَنْشَأْنَهُمْ إِنْشَاءً ﴿۳۲﴾

اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے۔ ہم نے اُن حوروں کو خاص طور پر بنایا ہے۔

فَجَعَلْنَهُمْ أَبْكَارًا ﴿۳۳﴾ عُرْبًا أترَابًا ﴿۳۴﴾ لِاصْحَابِ

پھر ہم نے اُن کو باکرہ، بہت زیادہ پیار دلانے والی، ہم عمر بنایا ہے۔ اصحابِ یمیں

الْيَمِينِ ﴿۳۵﴾ ثَلَاثَةٌ ﴿۳۶﴾ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۷﴾ وَثَلَاثَةٌ

کے لیے۔ وہ بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی۔ اور بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں

مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿۳۸﴾ وَاصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿۳۹﴾ مَا اصْحَابُ

سے ہوگی۔ اور بائیں طرف والے۔ بائیں طرف والے کیا (ہی)

الشِّمَالِ ﴿۴۰﴾ فِي سَمُومٍ ﴿۴۱﴾ وَحَيْمٍ ﴿۴۲﴾ وَظِلٍّ مِّنْ

برے (ہیں)! وہ لو میں ہوں گے اور گرم پانی میں ہوں گے۔ اور دھویں کے سایہ میں



بَيْنَكُمْ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۝

موت مقدر کر دی اور ہم عاجز نہیں ہیں۔

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

اس بات سے کہ ہم تمہارے جیسے بدلہ میں لائیں اور تمہیں پیدا کر دیں اس شکل میں جو تم جانتے بھی نہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَكُلُوا تَذَكَّرُونَ ۝

اور یقیناً تمہیں معلوم ہے پہلی پیدائش، پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرَثُونَ ۝ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا

کیا تم نے دیکھا اس کو جو تم بوتے ہو؟ کیا تم اس کھیتی کو اُگاتے ہو

أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ زَرَعْنَا ۝ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

یا ہم کھیتی اُگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے چورا چورا بنا دیں،

فَطَلَّئِمُمْ تَفَكَّهُونَ ۝ إِنَّا لَمُعْرَمُونَ ۝ بَلْ نَحْنُ

پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کہ یقیناً ہم تو قرضدار بن گئے۔ بلکہ ہم

مَحْرُومُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝

تو محروم ہو گئے۔ کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۝

کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَكُلُوا تَشْكُرُونَ ۝

اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۝ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ

کیا تم نے دیکھا اس آگ کو جسے تم سگاتے ہو؟ کیا تم نے اس کا

شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا

درخت پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو

تَذَكْرَةً ۝ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ

نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدہ کی چیز بنایا۔ پھر اپنے عظمت والے رب

رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ۝

کے نام کی تسبیح کیجیے۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب کی جگہوں کی۔

النَّشْأَةُ

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّئَلَّا تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۚ إِنَّهُ لَفُرْآنٌ	اور یقیناً یہ بڑی قسم ہے کاش کہ تم جانتے۔ یہ عزت والا
كَرِيمٌ ۚ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۚ لَا يَبْسُتُهُ	قرآن ہے۔ وہ محفوظ رکھی ہوئی کتاب میں ہے (روح محفوظ میں ہے)۔ اس کو نہیں چھوتے
إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ ۗ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝۳۷	مگر پاک فرشتے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ ۙ وَتَجْعَلُونَ	سو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو؟ اور تم اپنا حصہ
رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْذِبُونَ ۙ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ	یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو؟ پھر جب روح حلق
الْحُلُقُومَ ۙ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۙ وَنَحْنُ	تک پہنچتی ہے۔ اور تم اس وقت کا منظر دیکھتے بھی ہو۔ اور ہم
أَقْدَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝۳۸	تم سے اس (مرنے والے) کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے۔
فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۙ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ	پھر اگر تم سے حساب لیا جانا نہیں ہے، تو تم اس روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم
صَادِقِينَ ۙ فَمَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝۳۹	سچے ہو؟ پھر البتہ اگر وہ مقربین میں سے ہے،
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۙ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ۙ وَأَمَّا	تو راحت ہوگی اور خوشبودار پھول ہوں گے۔ اور جنت نعیم ہوگی۔ اور البتہ
إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۙ فَسَلِّمْ لَكَ	اگر وہ اصحابِ یمن میں سے ہے، سو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے
مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۙ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ	کہ تو اصحابِ یمن (دائیں والوں) میں سے ہے۔ اور البتہ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں
الضَّالِّينَ ۙ فَئِزْزِلْ ۙ مِنْ حَمِيمٍ ۙ وَتَصْلِيَةٌ	میں سے ہے، تو اس کی مہمانی کی جائے گی گرم پانی سے۔ اور آگ میں

جَحِيۡوٍ ﴿۹۲﴾ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ حَقٌّ اَلۡيَقِيۡنَ ﴿۹۱﴾ فَسَبِّحْ

داخل کرنا ہے۔ یقیناً یہ البتہ حق الیقین ہے۔ اس لیے

بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيۡمِ ﴿۹۱﴾

آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیجیے۔

ایاتھا ۲۹ ﴿۹۱﴾ سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ يَنْزِلُ فِيهَا ﴿۹۲﴾ رُوْعًا ۴

اس میں ۲۹ آیتیں ہیں سورۃ الحدید میں نازل ہوئی اور ۴ رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيۡمِ ﴿۹۰﴾

پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔

سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيۡزُ

اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اور وہ زبردست ہے،

الْحَكِيۡمُ ﴿۹۰﴾ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يُحْيِ

حکمت والا ہے۔ اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے

وَ يُمِيۡتُ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۹۱﴾ هُوَ الْاَوَّلُ

اور موت دیتا ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ وہی پہلا ہے

وَالْاٰخِرُ ۗ وَالظَّاهِرُ ۗ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

اور آخر ہے اور وہی ظاہر ہے اور باطن ہے۔ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے

عَلِيۡمٌ ﴿۹۲﴾ هُوَ الَّذِيۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

والا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا

فِيۡ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ

چھ دن میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ جانتا ہے

مَا يَلۡبِغُ فِيۡ الْاَرْضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنۡزِلُ

ان چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور جو زمین سے نکلتی ہیں اور جو آسمان

مِنَ السَّمٰوٰتِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمۡ

سے اترتی ہیں اور جو آسمان میں چڑھتی ہیں۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے

اَيۡنَ مَا كُنۡتُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوۡنَ بَصِيۡرٌ ﴿۹۳﴾ لَهٗ

جہاں تم ہوتے ہو۔ اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے



<p>مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ اور اللہ کی طرف تمام امور لوٹائے</p>
<p>الْأُمُورِ ۚ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ جائیں گے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں</p>
<p>فِي اللَّيْلِ ۗ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ اٰمِنُوْا داخل کرتا ہے۔ اور وہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ ایمان لاؤ</p>
<p>بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْفِيزِينَ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس میں اللہ نے تمہیں جانشین</p>
<p>فِيهِ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ بنایا ہے۔ تو وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور وہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا</p>
<p>كَبِيرٌ ۚ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر؟ حالانکہ رسول</p>
<p>يَدْعُوَكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ اور اس نے تم سے بھاری عہد لیا ہے</p>
<p>إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ اگر تم مؤمن ہو۔ وہی اپنے بندہ پر روشن</p>
<p>عَلَى عَبْدًاۙ اَلَيْتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے</p>
<p>إِلَى النُّورِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۚ نور کی طرف۔ اور یقیناً اللہ تم پر بہت زیادہ شفقت والا، نہایت مہربان ہے۔</p>
<p>وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ مِيرَاثٌ اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راستہ میں تم خرچ نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ ہی کے لیے</p>
<p>السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِي مَنْ أَنْفَقَ آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔ تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ جنہوں نے خرچ کیا</p>
<p>مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً فتح سے پہلے اور قتال کیا۔ یہ زیادہ بھاری درجات والے ہیں</p>

مَنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقْتِنَا وَكَلَّا  
 اُن کی بہ نسبت جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور اس کے بعد قتال کیا۔ اور تمام سے

وَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥﴾  
 اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ  
 کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، پھر اس کے لیے اللہ کئی گنا

لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٦﴾ يَوْمَ تَدْرَى الْمُؤْمِنِينَ  
 بڑھائے اور اس کے لیے اچھا ثواب ہے۔ جس دن آپ دیکھو گے ایمان والے مردوں

وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ  
 اور ایمان والی عورتوں کو کہ اُن کا نور اُن کے آگے اور اُن کے دائیں چل رہا ہوگا،

بُشْرِكُمْ الْيَوْمَ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 (کہا جائے گا کہ) تمہیں بشارت ہو آج ایسی جنتوں کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں یہ

خُلْدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧﴾ يَوْمَ  
 ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن

يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
 منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ

انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا  
 تم ہمارا انتظار کرو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ (کہا جائے گا کہ) تم اپنے پیچھے واپس لوٹ

وراءكم فالتمسوا نورا فصرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ  
 جاؤ، وہاں تم نور تلاش کرو۔ پھر اُن کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، جس کے لیے دروازہ

بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ  
 ہوگا۔ جس کے اندر میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر اس سے آگے عذاب

الْعَذَابِ ﴿٨﴾ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا  
 ہوگا۔ وہ اُن کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے

بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم و ترَبَّصْتُمْ و ارتبتم  
 کیوں نہیں؟ لیکن تم نے اپنے آپ کو خود عذاب میں ڈالا ہے اور تم ہم پر بلا کے منتظر رہے اور تم شک میں رہے

وَعَزَّتْكُمْ الْإِمَانُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكُمْ

اور تمہیں تمناؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آپہنچا اور تمہیں اللہ کے ساتھ

بِاللَّهِ الْعُرْوَةَ ۝ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ

دھوکے میں ڈالے رکھا دھوکے باز شیطان نے۔ پھر آج نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا

وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ مَاؤُكُمْ النَّارُ ۗ هِيَ

اور نہ کافروں سے۔ تمہارا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ یہی

مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ

تمہارا ساتھی ہے۔ اور بری جگہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں

آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ

آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے اور اس حق کے سامنے جو

مِنَ الْحَقِّ ۚ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

اترا ہے اور یہ نہ ہوں ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے پہلے

مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ

کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت لمبی ہوئی، پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ

يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ قَدْ بَيَّكْنَا لَكُمْ

زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے خشک ہو جانے کے بعد۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ إِنَّ الْمُؤْذِنِينَ

آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے تاکہ تم تاملند بن جاؤ۔ یقیناً صدقہ کرنے والے مرد

وَالْمُؤْذِنَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفَ

اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، تو ان کے

لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

لیے اس قرض کو دوگنا کیا جائے گا اور ان کے لیے اچھا ثواب ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اللہ پر

وَأُرسِلَهُ أَوْلِيَاكُ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالشَّهَدَاءُ

اور اس کے پیغمبروں پر، ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک

عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ ۗ وَالَّذِينَ  
صدق اور شہید ہیں۔ اُن کے لیے اُن کا اجر اور اُن کا نور ہوگا۔ اور جنہوں نے

كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی

الْجَحِيمِ ۗ ۝۱۸۱ اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ  
ہیں۔ جان لو کہ دنیوی زندگی تو صرف کھیل

وَأَلَهُمْ وَ زِينَةٌ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ  
اور غفلت اور زینت اور آپس میں فخر کرنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے

فِي الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ ۗ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ  
بڑھنا ہے مالوں میں اور اولاد میں۔ اس بارش کی طرح جس کا سبزہ کسانوں کو خوش

نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ  
کرتا ہے، پھر وہ لہلہانے لگتا ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے پیلا، پھر وہ چورا چورا

حُطَامًا ۗ وَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَ مَغْفِرَةٌ  
بن جاتا ہے۔ اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی

مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ ۗ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا  
طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے۔ اور دنیوی زندگی نہیں ہے

إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ۗ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ  
مگر دھوکے کا سامان۔ تم دوڑ لگاؤ اپنے رب کی

مِنَ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ ۗ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ  
مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے

وَ الْأَرْضِ ۗ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ  
برابر ہے۔ جو ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر

وَ رُسُلِهِ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ  
اور اس کے پیغمبروں پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۗ مَا أَصَابَ مِنْ  
اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہیں

پہنچتی	زمین میں اور نہ تمہاری جانوں میں	مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
مگر وہ ایک کتاب (لوح محفوظ) میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ یقیناً یہ		إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ
اللہ پر آسان ہے۔ تاکہ تم غم نہ کرو اس چیز پر		عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۗ لَّكِنَّا لَا تَسَوُّوا عَلَىٰ
جو تم سے فوت ہو گئی اور نہ اتراؤ اس پر جو اللہ نے تمہیں دیا۔ اور اللہ		مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ
پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو۔ جو بخل کرتے ہیں		لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۗ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ
اور انسانوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور جو روگردانی کرے گا		وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ
تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ یقیناً ہم نے		فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ لَقَدْ أَرْسَلْنَا
اپنے پیغمبر صحیح روشن معجزات دے کر اور ہم نے اُن کے ساتھ کتاب اتاری		رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
اور ترازو اتارا تاکہ انسان انصاف کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ اور ہم نے		وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا
لوہا اتارا جس میں سخت قوت ہے اور انسانوں کے لیے دوسرے منافع بھی ہیں		الْحَدِيدَ ۗ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
اور تاکہ اللہ جان لے اس کو جو اللہ کی اور اس کے پیغمبروں کی نصرت کرتا ہے بغیر دیکھے۔		وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ
یقیناً اللہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اور یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو رسالت دے کر بھیجا		إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۗ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا
اور ابراہیم (علیہ السلام) کو اور ہم نے اُن کی اولاد میں نبوت رکھ دی اور کتاب رکھ دی		وَإِبْرَاهِيمَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

فِيهِمْ مُهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۷۵﴾

تو اُن میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اُن میں سے اکثر نافرمان ہیں۔

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ

پھر ہم نے اُن کے پیچھے ہمارے پیغمبر بھیجے اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم

ابْنَ مَرْيَمَ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا

(علیہا السلام) کو بھیجا اور ہم نے اُن کو انجیل دی۔ اور ہم نے اُن لوگوں کے

فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ۖ وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً

دلوں میں جنہوں نے اُن کا اتباع کیا نرمی اور مہربانی رکھ دی۔ اور رہبانیت کو

إِنْتَدَعَوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ

انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، اس کو ہم نے اُن پر لازم نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے

اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ

لیے، پھر اس رہبانیت کی انہوں نے رعایت نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ پھر ہم نے اُن لوگوں کو

أَمَنُوا مِنْهُمْ أَحْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۷۶﴾

جو اُن میں سے ایمان لائے تھے اُن کا ثواب دیا۔ اور اُن میں سے اکثر نافرمان ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے پیغمبر پر،

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ۖ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا

وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا اجر دے گا اور تمہارے لیے نور بنا دے گا

تَنشُورًا بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۷۷﴾

جس کو لے کر تم چلو گے اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔

تِلَاً يَعْلَمَ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَفْقِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ

تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہیں

مَنْ فَضَّلِ اللَّهُ ۖ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

اللہ کے فضل میں سے اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے دیتا ہے

مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۷۸﴾

جسے چاہتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔